

PRESS RELEASE

For immediate release

July 14, 2020

کرونا ریلیف: بانئیس لاکھ چھوٹے قرض دہندگان کی اقساط کی ریشڈولنگ کی گئی؛ ایس ای سی پی

اسلام آباد (جولائی 14): سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر کرونا وائرس کی وباء کے دوران نان بینکنگ مائیکرو فنانس انسٹی ٹیوشنز سے قرض حاصل کرنے والے بانئیس لاکھ سے زائد کم آمدنی والے افراد اور چھوٹے کاروبار کے 36 ارب روپے مالیت کے قرضوں کی ریشڈولنگ کی گئی۔

ایس ای سی پی نے مارچ میں کرونا وائرس کی وباء سے پیدا شدہ صورت حال میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے غیر بینکنگ مائیکرو فنانس کمپنیوں (این بی ایم ایف سی) کے انضباطی تقاضوں میں نرمی کرتے ہوئے کمپنیوں کو قرض دہندگان کے قرض کی ادائیگیوں کو مؤخر کرنے یا ان کی اقساط کی ریشڈولنگ کرنے کی ہدایت کی تھی۔

جون 30 تک موصول اعداد و شمار کے مطابق بارہ نان بینکنگ مائیکرو فنانس کمپنیوں کی جانب سے تیرہ لاکھ سے زائد قرض دہندگان کے 27 ارب روپے کی اصل ادائیگی کو مؤخر کر کے سہولت فراہم کی جبکہ 9 این بی ایم ایف سیز کی جانب سے تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ صارفین کے 7 ارب روپے کے قرضوں کی ریشڈولنگ کی گئی۔ ایس ای سی پی نے پہلے ہی این بی ایم ایف سیز کے لئے 30 ستمبر 2020 تک قرض لینے والوں کی التواء کی درخواست قبول کرنے کے لئے تین ماہ کی توسیع کر دی ہے۔

ایس ای سی پی نے این بی ایم ایف سی کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایسے قرض لینے والے جو کہ معاشرے کے محروم طبقات سے تعلق رکھتے ہوں، کو آسانی فراہم کی جائے۔ ایس ای سی پی نے این بی ایم ایف سی کو ہدایت کی تھی کہ قرض دہندگان کی جانب سے الیکٹرانک ذرائع یعنی ای میل یا فون کالز کے ذریعہ اقساط کی ریشڈولنگ کے لئے درخواستیں منظور کی جائیں۔ ریلیف کی فراہمی کو کرونا وائرس کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لئے ایس ای سی پی کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔